

غزالی اور ابن رشد کا قضیہ

اصل عربی متون کی روشنی میں (۱)

(نوٹ: بعض عربی عبارات کا ترجمہ نہیں کیا گیا، کیونکہ عربی عبارت نقل

کرنے سے قبل ہی ان کا مفہوم، اپنے الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے)

غزالی نے اپنے دور میں خود کو مسلم کہنے والے بعض فلسفیوں کی کچھ آراء پر سخت علمی تنقید کی جو ان کی کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ کی صورت میں آج تک موجود ہے، جبکہ ایک مشہور فلسفی ”ابن رشد“ نے ”تہافت التہافت“ کے نام سے اس نقد کا جواب لکھا۔ غزالی اور ابن رشد کی اس آویزش کو غزالی اور ابن رشد کا قضیہ کہا جاتا ہے۔ زیر نظر مضمون میں اس علمی آویزش اور بحث کے تمام پہلوؤں کو زیر بحث لانا مقصود نہیں، نہ یہ مفید ہے اور نہ ہی آج کے جدید ذہن کے لئے یہ سب پہلو قابل فہم ہوں گے۔ موجودہ دور میں بہت سے لوگ غزالی کے مقابلہ میں ابن رشد کو اپنا راہ نما قرار دیتے ہیں اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ان کی اکثریت نے غزالی اور ابن رشد کے عربی متون کو تو درکنار، ان کے تراجم کو بھی نہیں پڑھا۔ کہیں کسی تحقیقی جملہ میں اس موضوع پر دو، ایک مقالے پڑھ کر وہ اس معاملہ میں ثالثی کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے قومی اخبارات کے بہت سے کالم نگاروں کا یہ پسندیدہ موضوع ہے اور وہ وقفہ وقفہ سے اس موضوع پر رائے زنی کرتے ہوئے غزالی کے موقف پر ابن رشد کے موقف کو ترجیح دیتے رہتے ہیں۔ غزالی کے حوالہ سے یہ حضرات کچھ سنگین قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر عالم اسلام غزالی کی بجائے ابن رشد کو اپنا راہ نما بناتا تو آج ذلت کے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ان کا خیال ہے کہ ابن رشد سائنس اور اسلام کے درمیان ہم آہنگی کا قائل تھا، جبکہ غزالی سائنس کے مخالف و منکر تھے اور گیارہویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے درمیان آنے والا سائنسی و فکری انحطاط غزالی کی مخالفت ہی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ زیر نظر مضمون میں دراصل انہی ”مغالطوں“ کا ازالہ مقصود ہے۔ ان حضرات پر میری تنقید غزالی سے اندھی عقیدت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ سوچی سمجھی رائے ہے جو غزالی اور ابن رشد کے اصل عربی متون کو براہ راست پڑھنے کے بعد میرے اندر پیدا ہوئی ہے۔

*مدیر: مرکز احیاء التراث، قدیر آباد۔ ملتان۔ mabdullah_87@hotmail.com

ماہنامہ الشریعہ (۱۵) فروری ۲۰۱۴

امام غزالی رحمہ اللہ کا موقف:

غزالی نے فلسفیوں پر کوئی ایسا جبر نہیں کیا کہ وہ فلسفہ نہ پڑھیں یا سائنسی تحقیقات کرنا چھوڑ دیں اور نہ ہی کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اسلام اور سائنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ غزالی کے پیروکاروں نے ایسے فلسفیوں اور سائنس دانوں پر کبھی تنقید نہیں کی جنہوں نے خود کو سائنسی تجربات اور ریاضی و طب جیسے مفید کارآمد اور پختل سائنسی علوم تک محدود رکھا۔ چنانچہ ہمارے علم کے مطابق الخوارزمی (الجبر کے بانی)، ابن الہیثم (ماہر طب)، حکیم یحییٰ بن ابی منصور، ابوریحان البیرونی (ماہرین جیومیٹری)، مسلم بن فراس (پہلا ہواباز)، عباس بن سعید جوہری اور سندر بن علی (آلات رصد بنانے کے ماہر)، بنوموسیٰ بن شاہر (گھڑی جیسے متحرک آلات بنانے کے ماہر)، محمد بن زکریا رازی (ماہر کیمیا)، حکیم ابو محمد العدلی القاسمی، ابوسہل و یحییٰ بن رستم کوہی اور حکیم ابوالوفاء بوزجانی (ماہرین ریاضی) جیسے لوگوں کو کبھی بھی کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم حکماء اور سائنس دانوں میں اکثر لوگ ایسے ہی تھے جنہوں نے خالصتاً ریاضی و طب جیسے حقیقی اور تجرباتی علوم تک اپنے آپ کو محدود رکھا اور اس میدان میں خدمات انجام دیں، لیکن ان کی زیادہ شہرت نہیں۔

مولانا عبدالسلام ندوی کے بقول ”صرف مامون الرشید کے زمانہ تک مسلمانوں میں متعدد ریاضی دان پیدا ہوئے اور مشہور ہوئے، مگر فلسفی صرف کندی پیدا ہوا۔“ (حکمائے اسلام۔ جلد ۱، صفحہ ۱۰۵) لیکن ان ریاضی دانوں اور جینیون سائنس دانوں کے نہ تو آج نام زیادہ معروف ہیں اور نہ ہی تاریخ میں ان کے احوال زیادہ محفوظ ہیں، وجہ وہی کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ لوگ اپنا ساسا کام کرتے رہتے تھے، تنازعہ امور میں یا مذہب کے معاملہ میں ٹانگ اڑا کر انہوں نے کبھی مشہور ہونے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھئے، بنوموسیٰ بن شاہر، حکیم یحییٰ بن منصور، عباس بن سعید وغیرہ کے نام سے کون واقف ہے؟ صرف الخوارزمی کا نام جانا پہچانا ہے، مگر اس کے حالات بھی آدھے صفحہ سے زیادہ نہیں ملتے۔ ایسے لوگوں کو بھی اگرچہ بعض اوقات فلسفی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں ریاضی و طب جیسے علوم بھی فلسفہ کا ایک شعبہ سمجھے جاتے تھے، لیکن فی الجملہ ان کو فلسفی کی بجائے ”حکیم“ کہا جاتا ہے۔ فلسفی کا لفظ اس کے مقابلہ میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنہوں نے خود کو ان جینیون علوم تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مذہبیات اور مابعد الطبیعیات میں ٹانگ اڑا کر اس میں بھی نئی نئی ”ایجادات“ پیش کرنے کی کوشش کی یا دوسروں کی ”ایجادات“ کو رد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لطفی جمعہ کی ”تاریخ فلاسفۃ الاسلام“ میں صرف ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، جینیون حکماء اور سائنس دانوں کا نہیں۔

غزالی کی تنقید کا رخ انہی ”مسلم“ فلسفیوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنے تنازعہ ”کارناموں“ کی وجہ سے شہرت حاصل کی اور ان میں سے بعض نے اپنی الہیات اور مابعد الطبیعیات (Metaphysics) کو اسلام میں داخل کرنے کی سعی کی۔ ان فلسفیوں نے اپنے علم الہیات میں خداوند تعالیٰ کے بارہ میں یہ عجیب و غریب دعویٰ کیا کہ وہ اپنی مخلوق کی کلیات کو اور ان پر طاری ہونے والے جزوی حالات کو جانتا ہے یعنی یہ کہ میری مخلوق میں انسان ہے، چرند

ہے، پرند ہے، ان میں کس نے کب پیدا ہونا اور کب مرنا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ ان جزئیات میں آنے والے موقع بموقع تغیر سے بے خبر اور غافل ہے، یعنی انسانوں میں اس وقت کتنے انسان موجود ہیں، کون پیدا ہو رہا ہے؟ کون مر رہا ہے؟ کون سادرخت پھل رہا ہے اور کون سادرخت سوکھ رہا ہے؟ کونسا ہو چکا ہے اور کس نے ہونا ہے؟ اگر کسی کو یہ ”منطق“ ناقابل فہم اور عجیب و غریب محسوس ہوتی ہے تو وہ فلسفیوں کا سر پیٹے، ہمارا نہیں۔ یہ حرف بحرف انہی کا عقیدہ ہے۔ فلسفہ کے مشہور و متداول متن ”ہدایۃ الحکمۃ“ کے مصنف اشیر الدین ابہری کے الفاظ ہیں: ”الواجب لذاتہ عالم بالجزئیات المتغیرۃ علی وجہ کلی..... لکن لا یدر کھا مع تغیرھا“ (ہدایۃ الحکمۃ۔ صفحہ ۷۲) اہل سنت کے ہاں مشہور یہ رہا ہے کہ فلسفی سرے سے یہ ہی نہیں مانتے کہ اللہ کی ذات کو جزئیات کا علم حاصل ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ علامہ شبلی نے بھی یہ وضاحت کی ہے۔ (علم الکلام۔ جلد اول، صفحہ ۱۲۹) صحیح بات یہی ہے کہ وہ اسے مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی، یعنی مانتے ہیں لیکن اپنی عجیب و غریب منطق کے ساتھ۔ تہافت التہافت کے محقق ڈاکٹر سلیمان دنیانے بوعلی کی سینا کی تصنیف ”الشفاء“ سے عبارت نقل کر کے دعویٰ کیا ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے بارہ میں جزئیات سے بالکل ناواقف ہونے کا قائل تھا۔ (تہافت التہافت۔ صفحہ ۵۸) لیکن میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کیونکہ اس کی محولہ عبارت میں ہی الفاظ یہ ہیں: ”لا یحوز ان یکون عاقلا لہذہ المتغیرات مع تغیرھا من حیث ہی متغیرۃ عقلا زمانیا مشخصا (بل علی نحو آخر نبینہ)..... واجب الوجود انما یعقل کل شیء علی نحو کلی.....“ (تہافت التہافت۔ صفحہ ۵۰) مزید سنئے، اسی طرح ان فلسفیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا ایک بے دست و پا قسم کی قوت (جسے وہ ”عقل“ کہتے ہیں) کا نام ہے جس سے ایک اور قوت نے جنم لیا، اس سے پھر ایک اور قوت نے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ دسویں قوت اور ”عقل“ تک پہنچا۔ اس دسویں عقل اور قوت سے یہ سارا جہان نمودار ہوا۔ اشیر الدین ابہری کے الفاظ ہیں: ”الصادر من المبدء الاول انما هو الواحد لانه بسیط والبسيط لا یصدر عنه الا الواحد کما امر“ (ہدایۃ الحکمۃ۔ صفحہ ۷۵)

یہ باتیں دلیل کی رو سے کتنی بے سرو پا اور احمقانہ ہیں، اس بحث میں بڑے بغیر فی الحال صرف یہ دیکھئے کہ ایک آدمی یہ سب باتیں خود کو مسلمان کہتے ہوئے اسلام ہی کے نام پر کرتا ہے تو کیا اسے اس بات کا حق پہنچتا ہے اور اگر کوئی غزالی اس پر تنقید کرے تو کیا یہ بلا جواز ہے؟ بات بڑی واضح ہے کہ ان ہفتوں کو فلسفی بے شک اپنے ”علم الہیات“ کا جزو بنا لیں کیونکہ دین میں جبر نہیں، مگر انہیں اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ سب باتیں خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی کریں اور یوں مسلمانوں کے لئے تشویش، انتشار اور افتراق کا باعث بنیں۔ طرہ یہ کہ ”مسلم“ فلسفی اپنی الہیات کو ریاضی اور منطق کی طرح حتمی اور شبہات سے پاک بھی سمجھتے تھے، مگر ان کا دعویٰ تھا کہ اس کے دلائل کو سمجھنا صرف فلسفیوں کے لیے ممکن ہے۔

غزالی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فلسفہ اور سائنس کے صرف کارآمد علوم کو اختیار کریں اور مذہب کے دائرہ سے ان کو الگ رکھتے ہوئے ان کی بنیاد پر اسلام کو بدلنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک حکمت و فلسفہ اور

سائنس کے تمام اجزاء قابل اعتراض نہیں، بلکہ صرف وہ حصہ جو اسلام کی تعلیمات سے صریحاً متضاد ہے۔ غزالی کے اپنے الفاظ ہیں: ”ہذا الفن و نظائرہ هو الذی ینبغی ان یظہر فساد مذہبہم فیہ دون ما عداہ“ (تہافت الفلاسفہ - صفحہ ۸۱) یعنی ”فن الہیات اور اس کی امثال ہی فلسفہ کا وہ شعبہ ہیں جہاں ان کے مذہب کی تردید مقصود ہے، فلسفہ کے کسی اور فن یا شعبہ (ریاضی، طب، منطق، سوشل سائنسز وغیرہ) پر تنقید کرنا ہمیں مطلوب نہیں۔“ اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ دیکھیں: ”علومہم اربعۃ اقسام: الرياضیات والالہیات والمنطقیات والطبیعیات، اما الرياضیات..... فلا غرض لنا فی الاشتغال بایرادہ، واما الالہیات فاكثر عقائدہم فیہا علی خلاف الحق والصواب نادر فیہا، واما المنطقیات..... فیخالفون اهل الحق فیہا بالاصطلاحات والایرادات دون المعانی والمقاصد اذ غرضہا تہذیب طرق الاستدلالات، واما الطبیعیات فالحق فیہا مشوب بالباطل“ (مقاصد الفلاسفہ صفحہ ۱۰۱، ۱۱) یعنی ”فلسفیوں کے نظریاتی علوم کے چار بنیادی شعبے ہیں، ایک تو ریاضی ہے جس کو موضوع بحث بنانا مطلوب نہیں، دوسرا الہیات ہے، اس میں ان کے اکثر عقائد راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، تیسرا منطق ہے جس میں اہل حق کے ساتھ ان کا اختلاف صرف اصطلاح میں ہے، اصل مفہیم میں نہیں، چوتھا طبیعیات ہے جس میں الٹی سیدھی، دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔“

تہافت الہیات کی فہرست پر ایک نظر ڈال کر بھی یہ بات آسانی معلوم کی جاسکتی ہے کہ غزالی کی گفتگو کا محور یا تو الہیات کے ان مسائل کی نشان دہی ہے جو دین کی تعلیمات سے صریحاً متضاد ہیں، یا پھر وہ فلسفیوں کے اس زعم کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی الہیات ریاضی اور منطق کی طرح شک و شبہ سے پاک ہے۔ اپنی کتاب میں ان کے صرف یہی دو اہداف ہیں۔ دوسروں کی بنائی ہوئی فہرستوں کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ خود ”تہافت الفلاسفہ“ کے مقدمہ میں ایک عنوان قائم کرتے ہیں: ”فہرست المسائل النہی اظہرنا تناقض مذہبہم فیہا فی ہذا الكتاب“ (صفحہ ۸۶) یعنی ”ان مسائل کی فہرست جن کے اندر فلسفیوں فلسفیوں کے مذہب کے ضعف کو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔“ اس کے بعد انہوں نے خود بیس مسائل کی فہرست دی ہے۔ ان مسائل پہ ایک سرسری نظر بھی ڈال لی جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے اہداف صرف یہی دو ہیں۔ وہ الہیات کے ان مسائل کی نشان دہی کرتے ہیں جو دین کی تعلیمات سے صریحاً متضاد ہیں یا پھر وہ فلسفیوں کے اس زعم کو رد کرتے ہیں کہ ان کی الہیات ریاضی اور منطق کی طرح شک و شبہ سے پاک ہے۔

اب خود بتائیے کہ کیا غزالی سائنس کے منکر ہیں؟ اسلام کی حقانیت دو اور دو، چار کی طرح واضح ہے کیونکہ اللہ کا وجود اس کائنات کا سب سے بدیہی سچ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و راست گوئی کو آج کے غیر متعصب ”نان مسلم“ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کے اثبات کے لئے کسی فلسفیانہ دلیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی فلسفیانہ دلیل کی بنا پر ایسے بدیہی سچ پر تنقید روا ہے۔ کجایہ کہ اسلام پر یہ تنقید خود کو مسلمان کہتے ہوئے (یعنی اسلام کے نام

پر) ہی کی جائے۔

ان واضح تصریحات کے بعد کسی کے لئے یہ کہنے کی گنجائش نہ تھی کہ غزالی سائنس کے منکر ہیں یا مذہب اور سائنس کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے خلاف ہیں۔ لیکن پروپیگنڈے کا تو کام ہی یہی ہے کہ حقائق کو تروڑا مروڑا جائے۔ بہتر ہوگا کہ یہاں پر ڈاکٹر سلیمان دنیا کی رائے بھی نقل کر دی جائے۔ ڈاکٹر سلیمان دنیا جامعہ الازہر، مصر میں فلسفہ کے استاد اور المرکز الثقافی الاسلامی، نیویارک کے مدیر ہے۔ وہ امام غزالی کی ”تہافت الفلاسفہ“ اور ابن رشد کی ”تہافت التہافت“ دونوں کے بیک وقت محقق، حاشیہ نگار اور مقدمہ نگار ہیں۔ انہوں نے دونوں کتابوں کے حرف حرف کو پڑھا، سمجھا، ان پر اپنے وقیع علمی حواشی تحریر کیے، موقع بموقع غزالی اور ابن رشد دونوں پہ بے لاگ نقد کیا، دونوں کتابوں کے شروع میں گراں قدر تحقیقی مقدمے تحریر کیے اور مختلف قلمی نسخوں کو سامنے رکھتے ہوئے الفاظ کے معمولی اختلاف تک کو بھی جا بجا واضح کیا۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ غزالی اور ابن رشد کے قضیہ کے بارہ میں ان کی رائے کسی بھی دوسرے آدمی کے مقابلہ میں کس پائے کی ہوگی؟ غزالی کے بارہ میں وہ لکھتے ہیں:

”غفل قوم عن ذالک فی القدیم والحديث، وظنوا ان الغزالی یحمل علی التفکیر العقلی جملة ویکرہه ویحاربه ویریدہ ان لا یکون، ومن هنا قالوا ما قالوا من ان الغزالی قد ضرب الفلاسفة۔ یعنون کلہا۔ ضربة لم تقم لها بعد الشرق قائمة، ومن الغریب انه حتی فی عصرنا هذا، بعد ما تیسر طبع کثیر من الکتب وتیسر تبعاً لذلک الاطلاع علی کثیر من کتب الغزالی، ما يزال بعض المنتسبین الی العلم والواضعین انفسہم بین اہلہ فی مقام الصدارة یجہلون هذه الحقیقة“
(تہافت التہافت بہ تحقیق سلیمان دنیا۔ صفحہ ۱۶)

”قدیم اور جدید، دونوں ادوار میں لوگوں کے ایک گروہ کا یہ خیال رہا ہے کہ غزالی پوری عقلی و فکری روایت پر حملہ آور ہیں، فکری کاوشوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے خلاف برسر پیکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پوری روایت کا خاتمہ ہو۔ اسی بناء پر ان لوگوں نے غزالی کے بارہ میں وہ سب کہا جو ان کے منہ میں آیا۔ ان لوگوں کے مطابق غزالی نے پورے فلسفہ اور سائنس کی ایسی تیج کنی کی ہے کہ اس کے بعد وہ مشرق میں بیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں جبکہ کتابیں آسانی سے دستیاب ہیں اور غزالی کی کتابوں سے مراجعت کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا، اب بھی خود کو علم سے منسوب کرنے والے اور اہل علم میں خود کو صدر نشینی کا اہل سمجھنے والے لوگ اس حقیقت سے جاہل ہیں۔“

ڈاکٹر سلیمان دنیا کا تعجب بجا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ روشن خیالی اپنی روشن خیالی کو مصدقہ کروانے کے چکر میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں انہیں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ غزالی کو پڑھے بغیر، غزالی کی طرف غلط موقف منسوب کرنا اور پھر ان پہ نقد کرنا بھی شاید اسی غرض سے ہے۔ خالص عربی زبان میں پناہ ہونے والے اس قضیہ کے بارہ میں بھی ان حضرات کا خیال ہے کہ عربی متون کے حوالے ثانوی درجہ رکھتے ہیں اور انگریزی مقالات کے حوالے ان سے زیادہ

معتبر ہیں۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ فلسفیوں کے علم الہیات پر تنقید کرنے میں غزالی تنہا نہیں، فخر الدین رازی اور ابن تیمیہ جیسے کئی علماء نے بھی ان پر سخت تنقید کی ہے۔ یہ سب حضرات (فقہی مسائل میں مختلف الخیال ہونے کے باوجود) فلسفیوں پر تنقید کرنے میں یک زبان ہیں۔ اور تو اور، خود ”سلسلہ فلسفہ“ میں ایک بڑا نام ابوالبرکات بغدادی کا آتا ہے۔ یہ مذہباً یہودی تھا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ اس نے بھی خود اپنی کتاب ”المعتبر“ میں فلسفیوں کی الہیات پر شدید اور بھرپور تنقید کی ہے۔ بعض حضرات کے بقول، بعد میں رازی اور ابن تیمیہ کی فلسفہ پر تنقید اکثر و بیشتر اسی ”المعتبر“ سے ماخوذ ہوتی ہے جو سلسلہ فلسفہ کے ہی ایک عظیم رکن کی تصنیف ہے۔ (حکمائے اسلام۔ جلد ۱، صفحہ ۲۵۰، ۲۵۱)

علامہ اقبال کے درج ذیل مشہور زمانہ شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی فلسفہ کے ناروا پہلوؤں پر غزالی کی تنقید کو درست اور قابل رشک سمجھتے تھے۔

رسم اذال رہ گئی، روح بلالی نہ رہی

فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی

ابن رشد کی تنقید:

ابن رشد نے اگرچہ غزالی کی ”تہافت الفلاسفہ“ پر تنقید لکھی ہے، مگر جنہوں نے دونوں کو پڑھا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابن رشد اپنی تمام تر تنقید کے باوصف غزالی کی کتاب کا قد کا ٹھ گھٹا نہیں سکے۔ ابن رشد کا مقصد ”تہافت التہافت“ میں کیا ہے اور وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات اگر میں ابن رشد کے حامیوں سے پوچھوں تو مجھے یقین ہے کہ بغلیں جھانکنے کے سوا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا یا پھر ان میں سے جو لوگ ذرا زبان آور ہیں، وہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات بنا لیں گے۔ اس قضیہ سے ان لوگوں کی واقفیت کا عالم تو یہ ہے کہ یہ غزالی کو سائنس و مذہب کی ہم آہنگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ خود ابن رشد نے بھی ”تہافت التہافت“ میں کہیں غزالی پر کم از کم یہ الزام عائد نہیں کیا۔ غزالی کے مقابلہ میں ابن رشد کو راہ نمائے بنانے کے شوقین جانتے ہی نہیں کہ ابن رشد نے خود لکھا کیا ہے اور غزالی نے ایسا کیا لکھا تھا جس سے ابن رشد نے اختلاف کیا ہے۔

(۱)

غزالی کا مقصود (جیسا کہ گذشتہ عنوان کے تحت بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے) ایک تو فلاسفہ کی الہیات کے ان مسائل کی نشان دہی ہے جو دین کی تعلیمات سے صریحاً متضاد ہیں۔ ان میں سے دو مثالوں کا ذکر ہم بھی گذشتہ سطور میں کر چکے ہیں:

۱۔ مخلوق کے جزئی احوال سے ناواقفیت والی بات۔

۲۔ یہ سارا جہان اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ وہ ایک قوت ہے جسے ”عقل“ کا نام دیتے ہیں، اس سے ایک قوت اور عقل نے جنم لیا، اس سے ایک اور عقل نے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ دسویں عقل تک پہنچا اور اسی سے یہ سارا جہان نمودار ہوا۔

باقی مسائل جو غزالی نے فلاسفہ کی الہیات کی طرف منسوب کئے ہیں، ان سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، صرف انہی دو مثالوں پر اکتفا کیجیے۔ ابن رشد کے ”دلیلی پیروؤں“ کا خیال ہوگا کہ شاید ابن رشد نے فلاسفہ کی طرف ان مسائل کی نسبت کو غلط ثابت کیا ہوگا اور اس نسبت سے انکار کیا ہوگا، حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں۔ پہلا مسئلہ ابن سینا کی تصانیف ”الاشارات“ اور ”الشفاء“ میں موجود ہے اور ابن رشد نے بھی ابن سینا سے اس کی نسبت کو قطع نہیں کیا۔ ڈاکٹر سلیمان دنیانے ”الشفاء“ کی طویل عبارت حرف بحرف نقل کی ہے۔ (تہافت الہیات - صفحہ ۵۸) جبکہ دوسرے مسئلہ کی نسبت کو ابن رشد نے فلاسفہ سے قطع ضرور کیا ہے مگر یونانی فلاسفہ سے، بوعلی سینا اور اس کے ہم نواؤں سے نہیں، انہیں وہ الٹا دواہرا مجرم نام زد کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خانہ ساز اس عقیدہ کی نسبت غلط طور پر یونانیوں کی طرف کی ہے۔ (تہافت الہیات - صفحہ ۳۰۹، ۳۰۱) اور غزالی کا مقدمہ خود غزالی ہی کے بقول بوعلی سینا اور اس کے ہم نواؤں کے خلاف ہے۔ (تہافت الفلاسفہ، صفحہ ۷۶، ۷۸۔ غزالی کی اصل عبارت بھی آگے ہم نقل کر دیں گے۔) سبحان اللہ! اب خود بتائیے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ یونانی فلسفیوں کی جان تو چھوٹ گئی کہ ابن رشد کے بقول ان کی طرف اس مسئلہ اور عقیدہ کی نسبت درست نہیں، لیکن کیا اس کے ساتھ ہی ساتھ بوعلی سینا وغیرہ کے خلاف غزالی کی ”چارچ شیٹ“ زیادہ مضبوط نہیں ہوگی (جن کی تردید کرنا غزالی کو مطلوب تھا)؟ کیونکہ ابن رشد ہی کے دعویٰ کے مطابق اس مسئلہ میں بوعلی سینا وغیرہ ناقل نہیں، بلکہ خود ان کے موجد ہیں۔

بوعلی سینا وغیرہ نے اپنی تصانیف میں کئی ایسے مسائل نقل کئے ہیں، جن کے بارہ میں ابن رشد کہتا ہے کہ بوعلی سینا نے یونانی فلاسفہ کی طرف ان کی نسبت غلط طور پر کی ہے اور درحقیقت یہ اس کے اپنے ذاتی افکار ہیں۔ مثلاً دیکھئے: تہافت الہیات، صفحہ ۸۹، ۱۲۱۔ ایسے مسائل کی ایک فہرست علامہ شبلی نے ”علم الکلام“ میں ترتیب بھی دی ہے۔ (علم الکلام - جلد ۱، صفحہ ۱۲۲) انہی میں سے وہ دوسرا مسئلہ بھی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

(۲)

جیسا کہ ہم نے عرض کیا، غزالی کا مقصود ایک تو ”الہیات“ کے ان مسائل کی نشان دہی ہے جو دین کی تعلیمات سے صریحاً متضاد ہیں۔ دوسرا جب وہ فلسفہ کے الہیاتی مسائل پر تنقید کرتے ہیں اور فلسفیوں کے دلائل کے مقابلہ میں مخالف عقلی والزامی دلائل پیش کرتے ہیں تو ان کا مقصود فقط یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ فلاسفہ کی الہیات ریاضی اور منطق کے اصولوں کی طرح قطعی نہیں اور اس میں دلیل کے اعتبار سے اشتباہ اور اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ ان کے الفاظ ہیں: ”یستدلون علی صدق علومہم الالہیة بظہور العلوم الحسابیة والمنطقیة ویستدرجون بہ ضعفاء العقول ولو كانت علومہم الالہیة متقنة البراہین نقیة عن التخمین کعلومہم الحسابیة لما اختلفوا فیہا کما لم یختلفوا فی الحسابیة“ (تہافت الفلاسفہ۔

صفحہ ۷۶، ۷۷) یعنی ”ارسطو کے سحر میں مبتلا“ ”مسلم“، فلسفی علم الہیات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ حیلہ سازی کرتے ہیں کہ جس طرح یونانی فلاسفہ کے وضع کردہ علم ریاضی اور علم منطق شک و شبہ سے پاک ہیں، اسی طرح ان کا وضع کردہ علم الہیات بھی قطعی اور حتمی ہے، یوں وہ کم عقولوں کو اپنی الہیات سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان کا علم الہیات علوم حسابیہ کی طرح مدلل اور شہادت سے پاک ہوتا تو کم از کم ان کے پیش رویونانیوں کا اس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا جیسا کہ علوم حسابیہ میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔“ (جبکہ ان کا اس میں شدید اختلاف منقول ہے اور خود غزالی نے وہ نقل کیا ہے۔)

فلاسفہ کے استدلال کے جواب میں ان کا عقلی اور الزامی استدلال محض یہی بات ثابت کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ الہیات کے اندر فلاسفہ کے دلائل اس طرح قطعی نہیں جس طرح کہ ریاضی اور منطق کے مسائل ہیں اور جس طرح کہ ارسطو سے زیادہ ارسطو کے وفادار ”مسلم“، فلسفی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ افلاک ذی روح ہیں اور وہ خدا تعالیٰ (جسے وہ ”عقل اول“ کہتے ہیں) کے برعکس مخلوقات کے افعال اور جزئیات میں آنے والے تغیر سے بھی لمحہ بہ لمحہ واقف رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اسے ثابت کرنے کا کہتا تو بتایا جاتا کہ یہ آسان کام نہیں اور اس کے لئے بہت ہی عالی قسم کا دماغ درکار ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آج کا کوئی روشن خیال مسلمان بھی فلسفیوں کے اس رویہ کی حمایت کرے یا یہ خیال کرے کہ الہیات کے حوالہ سے ”مسلم فلسفیوں“ کی اندھی عقیدت، بجاتھی اور غزالی نے جس طرح الہیات کو موضوع بحث بنایا ہے، الہیات کے مسائل کو جس طرح قطعی کی بجائے ظن و تخمین کا مجموعہ بتایا ہے اور ان پر قطعی دلائل کا مطالبہ کیا ہے، یہ ناجائز تھا۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اسے چاہئے کہ کم از کم ایک دفعہ ضرور فلسفیوں کی الہیات کا مطالعہ کر لے۔

فلسفیوں کا علم الہیات حماقتوں کا ایک پلندہ تھا۔ ابن خلدون کے بقول، سمجھ نہ آنے کے باوجود لوگ اس سے چمٹے رہتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہ سمجھ آ جائے تو انسان کو ایک خاص قسم کی ٹیبی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون۔ صفحہ ۵۶۱) چنانچہ عام لوگ تو رہے ایک طرف، ارسطو کے بعد فلسفہ کے تیسرے بڑے استاد بوعلی سینا کے بارہ میں منقول ہے کہ اس نے ”الہیات“ کے موضوع پر فلسفہ کے دوسرے استاد الفارابی کی ”مابعد الطبیعہ“ نامی ایک کتاب پڑھی، مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ جذبہ ایسا تو می تھا کہ یکے بعد دیگرے اسے چالیس دفعہ پڑھ ڈالا، کتاب لفظ بہ لفظ یاد ہو گئی مگر پلے پھر بھی کچھ نہ پڑا۔ یہاں تک کہ اس علم سے مایوس ہو گیا اور جوش ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن دل میں خلش تھی۔ ایک دفعہ پھر کسی موقع پر اسے پڑھا تو محسوس ہوا کہ اب مجھے سمجھ آنے لگی ہے۔ (حکمائے اسلام۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۹۵) اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں۔ ”مسلم“، فلسفیوں کا علم الہیات آج بھی دستیاب ہے، خود اس کے اس کا مطالعہ کر کے اس کی ”بے سرو سامانی“ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسے بے سرو پا علم کے مسائل کو اگر کوئی فلسفی اپنا عقیدہ بنائے، خود کو مسلمان کہتے ہوئے بنائے اور اوپر سے یہ دعویٰ بھی کرے کہ ہمارا علم الہیات ریاضی کی طرح شک و شبہ سے پاک ہے، مگر اس کا سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں تو کیا وہ اب بھی قابل تنقید نہیں، قابل تعریف ہے؟ غزالی کا قصور یہی ہے کہ انہوں

اس رویہ پر تنقید کی ہے۔ الہیاتی مسائل کو ثابت کرنے کے لئے فلسفی جو استدلال کرتے ہیں، غزالی نے اس کے برخلاف استدلال کر کے محض یہ بتایا کہ اس کی گنجائش بھی موجود ہے اور الہیات میں فلسفیوں کا استدلال دواوردو، چارکی طرح شک و شبہ سے پاک نہیں، بلکہ وہ محض امکانات ہیں جنہیں ان لوگوں نے عقائد کا درجہ دے رکھا ہے۔

اب ”تہافت الفلاسفہ“ میں جگہ جگہ کھری ہوئی غزالی کی اس تنقید کے جواب میں ابن رشد کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ اس کے جواب میں ابن رشد نے دیگر فلسفیوں کی طرح ایک تو یہی مضحکہ خیز ”انداز استدلال“ اختیار کیا ہے کہ چونکہ ان دلائل کا سمجھنا عالی دماغ ”خواص“ کا کام ہے اور عوام کے سامنے ان کی حقیقت کو بیان کرنا درست نہیں، لہذا ان دلائل کی حقیقت میں اپنی اس کتاب ”تہافت التہافت“ میں کھول نہیں سکتا کیونکہ یہ کتاب میں نے عوام کے لئے لکھی ہے اور ان دلائل کا ان کی رسائی سے دور رہنا ضروری ہے۔ مثلاً ایک جگہ وہ لکھتے ہیں: ”هذا العلم لا سبيل الى افشاءه في هذا الموضوع“ (صفحہ ۹۲) یعنی ”اس کتاب میں اس علم کو بے نقاب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔“ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”لا يقف على مذاهبهم في هذه الاشياء الا من نظر في كتبهم مع الشروط التي وضعوها مع فطرة فائقة و معلم عارف“ (صفحہ ۱۹۵) اسی طرح کا انداز استدلال صفحہ ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳ پر بھی نظر آتا ہے۔ ایک جگہ فلاسفہ کے موقف کے علمی اثبات کو مشکل کہہ کر اس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں: ”القديم لا يتغير بضر من ضرور التغير، وهذا كله عسير البيان“ (صفحہ ۶۵) ان کے اسی طرز استدلال پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیمان دنیا لکھتے ہیں: ”الاولى باين رشد اثبات دعواه، لا التهرب منها بدعوى عسر بيانها، ثم مهاجمة دعوى خصمه“ (تہافت التہافت۔ صفحہ ۶۵) یعنی ”ابن رشد کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا چاہیے تھا، دعویٰ کے اثبات کو مشکل کہہ کر جان چھڑا لینا اور پھر مخالف سے جھگڑا بھی کرنا، یہ کوئی طریقہ نہیں۔“ ابن رشد کے مرید بھی ابن رشد کے اس انداز استدلال سے بخوبی واقف ہیں اور وہ اس کے اس قول کی کوئی توجیہ نہیں کر پاتے کہ ”عوام کو علم و حکمت کی باتوں سے دور رکھنا چاہیے۔“ درج ذیل لنک پر ابن رشد کے مریدوں کا اس موضوع پر مکالمہ دیکھا جاسکتا ہے۔

<http://www.mukalma.com/?dialogue=11361>

دوسرا ابن رشد کو غزالی کے اس اسلوب نقد کو سمجھنے میں ہی سرے سے مغالطہ ہوا ہے۔ فلاسفہ کے استدلال کے مقابلہ میں غزالی جو مخالف استدلال کرتے ہیں، وہ اس کی قطعیت کا دعویٰ نہیں کرتے، اس سے مقصود محض فلسفیوں کے استدلال میں تشکیک کو اجاگر کرنا اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ایسے مسائل میں اشتباہ اور اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لہذا فلسفیوں کا عوام کو یہ کہہ کر الو بنانا غلط ہے کہ ان کا سمجھنا آسان نہیں، ورنہ یہ بھی ریاضی کی طرح قطعی اور حتمی ہیں۔ مثلاً افلاک کو جان دار ثابت کرنے کے لئے فلسفی ”انکل نما“ جو استدلال کرتے ہیں، غزالی نے اس کے مخالف استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ افلاک ضرور بے جان ہی ہیں، بلکہ محض یہ بتایا کہ فلسفی اپنے جس تصور کو حتمی اور قطعی سمجھتے ہیں، اس کے لئے کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ مثلاً وہ اپنے مقدمہ میں ہی وضاحت کرتے ہیں: ”لا

ادخل فی الاعتراض علیہم الا دخول مطالب منکر، لا دخول مدع مثبت“ (تہافت التہافت - صفحہ ۸۲) یعنی ”ان پر میرے اعتراض سے مقصود جانب مخالف کا دعویٰ اور اس کا اثبات نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ لکھنا ہوتا ہے کہ ان کا موقف غیر قطعی ہے اور دوسرے امکان کی گنجائش بھی موجود ہے۔“ ابن رشد نے ایسے موقعوں پر یہ سمجھا ہے کہ وہ شاید اپنے مخالف استدلال کو قطعی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنی تصنیف میں جا بجا بس یہی ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر غزالی کا مخالف استدلال بھی قطعی نہیں، حالانکہ یہ چیز غزالی کے موقف کو کم زور کرنے کی بجائے التا سے تقویت دیتی ہے کیونکہ جب وہ غزالی کے موقف کو غیر حتمی کہتے ہیں تو اس کا بالواسطہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ فلاسفہ کا استدلال بھی اس کے مقابلہ میں حتمی اور قطعی نہیں (اور یہی ثابت کرنا غزالی کا مقصود ہے)، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ان کا استدلال حتمی اور قطعی ہوتا تو غزالی کے استدلال کو وہ غیر حتمی کی بجائے باطل اور غلط محض کہتے۔

”تہافت التہافت“ کے دوسری مقدمہ میں ”تہافت التہافت“ تحریر کرنے کا مقصد خود ابن رشد ہی کے الفاظ میں یہ ہے: ”فان الغرض فی هذا القول ان نبين مراتب الاقوال المثبتة فی کتاب التہافت لابی حامد فی التصدیق والافناع وقصور اکثرها عن رتبة اليقين“ (تہافت التہافت - صفحہ ۵۵) یعنی ”اس کتاب میں ہمارا مقصود یہ بتانا ہے کہ ابو حامد الغزالی کی کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ میں جو بیانات اور دلائل مذکور ہیں، استدلال کی رو سے ان کا کیا درجہ ہے اور یہ کہ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو یقین کے رتبہ سے فروتر ہیں۔“ بعینہ اسی طرح کا مضمون لفظوں کے ذرا اختلاف کے ساتھ صفحہ ۸۲ پر بھی موجود ہے۔ ”فقد تبين لك انه ليس فی الادلة التي حكاها عن المتكلمين فی حدود العالم كفاية فی ان تبلغ مرتبة اليقين، وانها ليست تلحق بمراتب البرهان، ولا الادلة التي ادخلها عن الفلاسفة فی هذا الكتاب لاحقة بمراتب البرهان۔ وهو الذي قصدنا بيانه فی هذا الكتاب“۔

ڈاکٹر سلیمان دنیا اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”الغزالی ليس بصدد ان يثبت عقيدة فی کتاب تہافت الفلاسفة، وانما هدفه هو التشكيك فی ادلة الفلاسفة تلك الادلة التي يزعم الفلاسفة انها بلغت حد اليقين والرياضی..... فليس اذن من حق ابن رشد ان ينتظر من الغزالی فی كتابه تہافت الفلاسفة ان يكون مثبتا وليس من حقه كذلك ان يتصيد من كلامه ما يسميه ادلة لم تبلغ مرتبة اليقين“ (تہافت التہافت - صفحہ ۸۲) یعنی ”غزالی اپنی کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ میں اپنے عقیدہ کو قطعی دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کے درپے نہیں ہیں (یہ کام غالباً انہوں نے اپنی ایک اور کتاب قواعد العقائد میں کیا ہے جو احیاء العلوم کا حصہ ہے) اس کتاب میں ان کا مقصود محض فلاسفہ کے دلائل میں اشتباہ کی گنجائش نکال کر دکھانا ہے جنہیں فلسفی ریاضی کی طرح قطعی سمجھتے ہیں اور بس، لہذا ابن رشد کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غزالی سے اس کتاب میں قطعی دلائل کی توقع رکھے اور نہ ہی اس کے لئے یہ مناسب ہے کہ ان کے غیر یقینی استدلال کو غیر یقینی کہہ کر ان کا شکار کھیلے۔“ (جاری)